

سندھ ایکٹ I مجریہ ۲۰۱۳

SINDH ACT NO.I OF 2013

سندھ سرکاری ملازم (ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۳

THE SINDH CIVIL SERVANTS

(AMENDMENT) ACT, 2013

فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

۱۔ مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

۲۔ دفعہ 23-A کی شمولیت

Insertion of section 23-A

سندھ ایکٹ I مجریہ ۲۰۱۳

SINDH ACT NO.I OF 2013

سندھ سرکاری ملازم (ترمیم) ایکٹ،

۲۰۱۳

THE SINDH CIVIL SERVANTS (AMENDMENT) ACT, 2013

[۲۱ فروری ۲۰۱۳]

ایکٹ جس کے ذریعے سندھ سرکاری ملازم ایکٹ، ۱۹۷۳ میں، تقرریوں اور ترقیوں اور کچھ اٹھائے ہوئے اقدامات کو چلانے کے لیئے ترمیم کی جائے گی۔

تمہید (Preamble)

جیسا کہ تقرریوں اور ترقیوں سے متعلقہ کچھ اقدامات کو ضابطہ مطابق بنانا لازمی ہو گیا ہے؛ اور جیسا کہ سندھ پولیس کا اخلاقی اعتماد برقرار رکھنا ضروری ہو گیا ہے، جس کے باعث ماضی میں اہلکاروں کی زندگیاں جوکھم پر رکھی ہیں اور اپنی ڈیوٹی کے دوران بہترین بہادری کا مظاہرہ کیا ہے؛

اور جیسا کہ صوبائی اسیمبلی کے سیشن چل رہا ہے: اب اس لیئے سندھ کی صوبائی اسیمبلی کے فلور پر سندھ کی صوبائی حکومت کی طرف سے سندھ سرکاری ملازم ایکٹ، ۱۹۷۳ کی دفعہ 9-A کے تحت کی گئی تقرریوں اور ترقیوں یا دوسری صورت میں پولیس محکمہ کی طرف سے لئے گئے ایسے قدم کے مقصد کے لیئے یہ بل متعارف کرایا گیا ہے۔ بل کے ذریعے سندھ سرکاری ملازم ایکٹ، ۱۹۷۳ کی اس لئے مندرجہ ذیل طریقے سے ترمیم کی جائے گی:

مختصر عنوان اور
شروعات

Short title and
commencement

دفعہ 23-A کی
شمولیت

Insertion of
section 23-A

اس کو اس طرح بنا کر عمل میں لایا جائے گا:
۱۔ (۱) اس ایکٹ کو سندھ سرکاری ملازم (ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۳ کہا جائے گا۔
(۲) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔

۲۔ سندھ سرکاری ملازم ایکٹ، ۱۹۷۳ میں، دفعہ ۲۳ کے بعد مندرجہ ذیل نئی دفعہ شامل کی جائے گی:
"23-A-آؤٹ آف ٹرن ترقیوں کو ضابطہ مطابق بنانا۔
(۱) جب تک کچھ کسی قانون، یا حکم یا کسی عدالت

کے فیصلے کے متضاد نہ ہو، اس ایکٹ سندھ سرکاری ملازم (ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۳ کے نافذ ہونے سے پہلے جو حکومت یا مجاز اختیاری یا دوسری صورت میں پولیس محکمہ کی طرف سے 9-A کے تحت دی گئے ہیں، دی گئی ترقی ایسی ترقیوں والی تاریخ سے ضابطہ کے مطابق سمجھی جائے گی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) تحت دی گئی ساری ترقیاں اور سارے نوٹیفکیشنز، کارروائیاں، ہدایات یا ایسی ترقیوں کے سلسلے میں جاری کردہ احکامات درست اور ہمیشہ ایسے ہی موثر رہیں گے۔

(۳) کوئی شخص جو ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کئی گئی کسی ترقی سے متاثر ہوا ہو، وہ سندھ سرکاری ملازم (ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۳ کے نافذ ہونے کے تیس دن کے اندر سندھ سروس ٹریبونل میں اپیل داخل کر سکتا ہے۔

نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا